

Date: 01-December-2023

News Coverage of Press Release

“CHINA BASED COMPANY ACQUIRES RENEWABLE ENERGY FIRM IN PAKISTAN”

Chinese company to invest in Pak renewable energy sector

By our correspondent

ISLAMABAD: China-based M/s CNNP Rich Energy Co. Ltd. strategically invests in Pakistan's renewable energy sector through its wholly-owned subsidiary M/s: CRE International Co., Limited.

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has approved the acquisition of M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) by M/s. CRE International Co., Limited. CRE is the wholly owned subsidiary of CNNP Rich Energy Co. Limited located in Hong Kong. Whereas M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) is based in Mauritius.

SSIL owns 100 percent shareholding of M/s. UEP Wind Power (Private) Limited, a private company operating and maintaining a 99MW wind-powered electric generation facility in Pakistan. CRE has acquired SSIL and thus indirectly acquired UEP Wind Power Pakistan.

CCP conducted a comprehensive review of the merger documentation. Given that the transaction did not lead to the dominance of the acquirer in the relevant market, the CCP has granted approval for the merger.

This transaction serves as a testament to the growing interest of foreign investors in Pakistan's renewable energy sector. While the transaction indirectly reflects a substantial foreign investment in the country's energy landscape, it also underscores the potential for collaborative advancements in the renewable energy domain.

CORPORATE CORNER

CCP grants approval for merger

ISLAMABAD. China-based CNNP Rich Energy Co Ltd strategically invests in Pakistan's renewable energy sector through its wholly owned subsidiary, CRE International Co Limited. The Competition Commission of Pakistan (CCP) has granted approval for the acquisition of Super Success Investments Limited (SSIL) by CRE International. CRE is the wholly owned subsidiary of CNNP Rich Energy Co located in Hong Kong whereas SSIL is based in Mauritius. SSIL owns 100% shareholding of UEP Wind Power, a private company operating and maintaining a 99MW wind-powered electric generation facility in Pakistan. CRE has acquired SSIL and thus indirectly acquired UEP Wind Power. CCP conducted a comprehensive review of the merger documentation. Given that the transaction did not lead to the dominance of the acquirer in the relevant market, the CCP has granted approval for the merger. This transaction serves as a testament to the growing interest of foreign investors in Pakistan's renewable energy sector. While the transaction indirectly reflects a substantial foreign investment in the country's energy landscape, it also underscores the potential for collaborative advancements in the renewable energy domain. PRESS RELEASE

CCP grants approval for acquisition of SSIL by CRE International

ISLAMABAD (Staff Reporter): The Competition Commission of Pakistan (CCP) has granted approval for the acquisition of M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) by M/s. CRE International Co., Limited. China based M/s. CNNP Rich Energy Co. Ltd. strategically invests in Pakistan's renewable energy sector through its wholly owned subsidiary M/s. CRE International Co., Limited. CRE is the wholly owned subsidiary of CNNP Rich Energy Co. Limited located in Honk Kong. Whereas M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) is based in Mauritius. SSIL owns 100 percent shareholding of M/s. UEP Wind Power (Private) Limited, a private company operating and maintaining a 99MW wind-powered electric generation facility in Pakistan. CRE has acquired SSIL and thus indirectly acquired UEP Wind Power Pakistan. CCP conducted a comprehensive review of the merger documentation. Given that the transaction did not lead to the dominance of the acquirer in the relevant market, the CCP has granted approval for the merger. This transaction serves as a testament to the growing interest of foreign investors in Pakistan's renewable energy sector. While the transaction indirectly reflects a substantial foreign investment in the country's energy landscape, it also underscores the potential for collaborative advancements in the renewable energy domain.

China based company acquires renewable energy firm in Pakistan


STAFF REPORTER

ISLAMABAD

China based M/s. CNNP Rich Energy Co. Ltd. strategically invests in Pakistan's renewable energy sector through its wholly owned subsidiary M/s. CRE International Co., Limited.

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has granted approval for the acquisition of M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) by M/s. CRE

International Co., Limited. CRE is the wholly owned subsidiary of



CNNP Rich Energy Co. Limited located in Hong Kong. Whereas M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) is based in Mauritius.

SSIL owns 100 percent shareholding of M/s. UEP Wind Power (Private) Limited, a pri-

ivate company operating and maintaining a 99MW wind-powered electric generation facility in Pakistan. CRE has acquired SSIL and thus indirectly acquired UEP Wind Power Pakistan.

CCP conducted a comprehensive review of the merger documentation. Given that the transaction did not lead to the dominance of the acquirer in the relevant market, the CCP has granted approval for the merger.

This transaction serves as a testament

to the growing interest of foreign investors in Pakistan's renewable energy sector. While the transaction indirectly reflects a substantial foreign investment in the country's energy landscape, it also underscores the potential for collaborative advancements in the renewable energy domain.

CCP GREENLIGHTS CHINESE COMPANY'S ACQUISITION OF RENEWABLE ENERGY PROJECT

■ UEP, WIND POWER FACILITY NOW TO BE OWNED BY CHINA'S CNNP RICH ENERGY

PROFIT

GHULAM ABBAS

CHINA's CNNP Rich Energy Co. Ltd. strategically enters Pakistan's renewable energy market through its wholly owned subsidiary, M/s. CRE International Co. Limited.

As per details, the Competition Commission of Pakistan (CCP) has

greenlit the acquisition of Super Success Investments Limited (SSIL) by CRE International Co. Limited, which is a Hong Kong-based subsidiary of CNNP Rich Energy.

CNNP, the China National Nuclear Corporation is a largely state owned enterprise of the Chinese government dedicated to research, development and production of electric power. Rich Energy Company is the renewable energy

arm of CNNP, which in turn owns CRE International.

The acquisition concerns the CCP because SSIL, headquartered in Mauritius, holds a 100% stake in M/s. United Energy Pakistan (UEP) Wind Power (Private) Limited. UEP operates a 99 MW wind-powered facility in Jhimpur, Sindh. With the acquisition of SSIL, CRE indirectly gains control of UEP Wind Power Pakistan, which in turn

makes this project a part of CNNP.

Following an extensive review by the CCP, approval for the merger was granted, as it was found not to result in the dominance of the acquirer in the relevant market.

Beyond reflecting substantial foreign investment in the country's energy landscape, it signals the potential for collaborative advancements in the renewable energy domain.

China company acquires renewable energy firm

F.P. Report

ISLAMABAD: China based M/s. CNNP Rich Energy Co. Ltd. strategically invests in Pakistan's renewable energy sector through its wholly owned subsidiary M/s. CRE International Co., Limited.

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has granted approval for the acquisition of M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) by M/s. CRE International Co., Limited. CRE is the wholly owned subsidiary of CNNP

Rich Energy Co. Limited located in Honk Kong. Whereas M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) is based in Mauritius.

SSIL owns 100 percent shareholding of M/s. UEP Wind Power (Private) Limited, a private company operating and maintaining a 99MW wind-powered electric generation facility in Pakistan. CRE has acquired SSIL and thus indirectly acquired UEP Wind Power Pakistan.

CCP conducted a comprehensive review of the merger documentation.

Given that the transaction did not lead to the dominance of the acquirer in the relevant market, the CCP has granted approval for the merger.

This transaction serves as a testament to the growing interest of foreign investors in Pakistan's renewable energy sector. While the transaction indirectly reflects a substantial foreign investment in the country's energy landscape, it also underscores the potential for collaborative advancements in the renewable energy domain.

Business Recorder

01-December-2023

Online

CCP grants approval for acquisition of SSIL by CRE

Sohail Sarfraz Published about 6 hours ago



Facebook



Twitter



Whatsapp



Comments



Follow us



ISLAMABAD: China based M/s CNNP Rich Energy Co Ltd strategically invests in Pakistan's renewable energy sector through its wholly owned subsidiary M/s CRE International Co, Limited.

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has granted approval for the acquisition of M/s Super Success Investments Limited (SSIL) by M/s CRE International Co, Limited. CRE is the wholly owned subsidiary of CNNP Rich Energy Co. Limited located in Honk Kong. Whereas M/s Super Success Investments Limited (SSIL) is based in Mauritius.

SSIL owns 100 percent shareholding of M/s UEP Wind Power (Private) Limited, a private company operating and maintaining a 99MW wind-powered electric generation facility in Pakistan. CRE has acquired SSIL and thus indirectly acquired UEP Wind Power Pakistan.

The CCP conducted a comprehensive review of the merger documentation. Given that the transaction did not lead to the dominance of the acquirer in the relevant market, the CCP has granted approval for the merger.

This transaction serves as a testament to the growing interest of foreign investors in Pakistan's renewable energy sector. While the transaction indirectly reflects a substantial foreign investment in the country's energy landscape, it also underscores the potential for collaborative advancements in the renewable energy domain.

The Spokesman

01-December-2023

Page # 8

Daily The Spokesman

RAWALPINDI

A Leading National Daily



Oil rich Gulf states looking towards Pakistan for investment purpose: Gohar

Caretaker Minister for Commerce Gohar Ejaz said that Oil-rich Gulf countries are looking towards Pakistan for investment purposes. Pakistan has opened a 'One Window' operation to facilitate the investors seeking business opportunities in agriculture, information technology, and mining sectors, he said while talking to a private television channel.



Govt keeps petrol price drops diesel by Rs7

The caretaker federal government on Monday kept petrol price unchanged at Rs281.34 per litre. However, the high-speed diesel (HSD) price has been dropped by Rs7 per litre while kerosene oil decreased by Rs7 per litre. The light diesel oil has also been dropped by Rs7 per litre. The finance ministry issued a notification on Monday.

Simultaneously published from Islamabad

December 1, 2023



www.dailyspokesman.net



@daily_spokesman



Daily Spokesman Vol: 16, Issue: 232

Price 100/-

China Based Company acquires renewable energy firm in Pakistan

PNP

ISLAMABAD: China based M/s. CNNP Rich Energy Co. Ltd. strategically invests in Pakistan's renewable energy sector through its wholly owned subsidiary M/s. CRE International Co., Limited.

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has granted approval for the acquisition of M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) by M/s. CRE International Co., Limited. CRE is the wholly owned subsidiary of CNNP Rich Energy Co. Limited located in Honk Kong. Whereas M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) is based in Mauritius.

SSIL owns 100 percent shareholding of M/s. UEP Wind Power (Private) Limited, a private company operating and maintaining a 99MW wind-powered electric generation facility in Pakistan. CRE has acquired SSIL and thus indirectly acquired UEP Wind Power Pakistan.



Chinese Firm Strategically Invests in Pakistan's Renewable Energy Sector

By [ProPK Staff](#) | Published Nov 30, 2023 |



China-based M/s. CNNP Rich Energy Co. Ltd. strategically invests in Pakistan's renewable energy sector through its wholly-owned subsidiary M/s. CRE International Co., Limited.

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has granted approval for the acquisition of M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) by M/s. CRE International Co., Limited. CRE is the wholly owned subsidiary of CNNP Rich Energy Co. Limited located in Hong Kong. Whereas M/s. Super Success Investments Limited (SSIL) is based in Mauritius.

SSIL owns 100 percent shareholding of M/s. UEP Wind Power (Private) Limited, is a private company operating and maintaining a 99MW wind-powered electric generation facility in Pakistan. CRE has acquired SSIL and thus indirectly acquired UEP Wind Power Pakistan.

CCP conducted a comprehensive review of the merger documentation. Given that the transaction did not lead to the dominance of the acquirer in the relevant market, the CCP has granted approval for the merger.

This transaction serves as a testament to the growing interest of foreign investors in Pakistan's renewable energy sector. While the transaction indirectly reflects a substantial foreign investment in the country's energy landscape, it also underscores the potential for collaborative advancements in the renewable energy domain.

<https://propakistani.pk/2023/11/30/chinese-firm-strategically-invests-in-pakistans-renewable-energy-sector/>

چینی کمپنی کی پاکستان کے رینیو ایبل انرجی سکیٹر میں بھاری سرمایہ کاری

سی سی پی نے چینی کمپنی سی آرای انٹرنیشنل کو ایس ایس آئی ایل کے حصول کی اجازت دیدی

اسلام آباد (نمائندہ خصوصی) چینی کمپنی سی این این پی انرجی لمیٹڈ نے اپنی ماتحت کمپنی سی آرای انٹرنیشنل کے ذریعے پاکستان کے رینیو ایبل انرجی (متبادل توانائی) سکیٹر میں بھاری سرمایہ کاری کر دی ہے۔ کمپنیشن کمشن آف پاکستان (سی سی پی) نے ایس ایس آئی ایل کو موریشس کی سپر سسٹیمس انوسٹمنٹ لمیٹڈ (ایس ایس آئی ایل) کے حصول کی اجازت دے دی ہے۔ سی آرای ہانگ کانگ میں قائم ہے اور چینی کمپنی سی این این پی رچ ہے۔ کمپنیشن کمشن آف پاکستان (سی سی پی) نے انرجی کی ماتحت کمپنی صفحہ 5 پر بقیہ نمبر 34

چینی کمپنی

بقیہ 34

ہے۔ سپر سسٹیمس انوسٹمنٹ لمیٹڈ (ایس ایس آئی ایل) ایک پاکستانی کمپنی یو ای پی ونڈ پاور کے سو فیصد شیئر کی مالک ہے۔ یو ای پی ونڈ پاور ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو پاکستان میں 99 ایم ڈبلیو ہوا سے چلنے والی بجلی کی پیداوار کا سٹم چلا رہی ہے۔

متبادل توانائی ذرائع: چینی کمپنی کی پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری موریشس کی کمپنی کے حصول کی اجازت

اسلام آباد (خبرنگار خصوصی) چینی کمپنی سی این این پی انرجی لمیٹڈ نے اپنی ماتحت کمپنی سی آرای انٹرنیشنل کے ذریعے پاکستان (باقی صفحہ 3 نمبر 1)

کمپنی اجازت

بقیہ نمبر 1

میں متبادل توانائی کے شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کر دی۔ مسابقتی کمیشن نے سی آرای انٹرنیشنل کو موریشس کی سپرسک سیس انویسٹمنٹ لمیٹڈ (ایس ایس آئی ایل) کے حصول کی اجازت دیدی۔ سپرسک سیس انویسٹمنٹ لمیٹڈ ایک پاکستانی کمپنی یو ای پی ونڈ پاور کے 100 فیصد شیئرز کی مالک ہے۔ سی آرای نے ایس ایس آئی ایل حاصل کرنے کے بعد بالواسطہ طور پر یو ای پی ونڈ پاور پلانٹ کا حصول بھی کر لیا ہے۔

چینی کمپنی کا پاکستان میں متبادل توانائی کمپنی کا حصول

CCP نے چینی کمپنی کو توانائی کے حصول کی اجازت دیدی

انرجی کی ماتحت کمپنی ہے۔ سپر سلسیس انوسٹمنٹ لمیٹڈ (ایس ایس آئی ایل) ایک پاکستانی کمپنی یو ای پی ونڈ پاور کے سو فیصد شیئرز کی مالک ہے۔ یو ای پی ونڈ پاور ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو پاکستان میں 1999 ایم ڈبلیو ہوا سے چلنے والی بجلی کی پیداوار کا سٹم چلا رہی ہے۔ سی آرای نے ایس ایس آئی ایل کا حصول کر لیا ہے، اس طرح سے اس نے بالواسطہ طور پر یو ای پی ونڈ پاور پلانٹ کا حصول بھی کر لیا ہے۔

اسلام آباد (اوصاف نیوز) چینی کمپنی سی این این پی انرجی لمیٹڈ نے اپنی ماتحت کمپنی سی آرای انٹرنیشنل کے ذریعے پاکستان کے رینو ایبل انرجی (متبادل توانائی) سیکٹر میں بھاری سرمایہ کاری کر دی ہے۔ کمپنیشن گمشن آف پاکستان (سی سی پی) نے چینی کمپنی سی آرای انٹرنیشنل کو موریشس کی سپر سلسیس انوسٹمنٹ لمیٹڈ (ایس ایس آئی ایل) کے حصول کی اجازت دیدی ہے۔ سی آرای ہانگ کانگ میں قائم ہے اور چینی کمپنی سی این این پی ریج

چینی کمپنی کا پاکستان میں متبادل توانائی کمپنی کا حصول

سی آر ای انٹرنیشنل کے ذریعے متبادل توانائی سکیٹر میں بھاری سرمایہ کاری

اسلام آباد (نامہ نگار خصوصی) چینی کمپنی سی آر ای انٹرنیشنل نے اپنی ماتحت کمپنی سی آر ای انٹرنیشنل کے ذریعے پاکستان کے رینیو ایبل انرجی (نوٹسٹنٹ لیٹنڈ) ایس ایس آئی ایل (کے حصول کی) متبادل توانائی (سکیٹر میں بھاری سرمایہ کاری کردی اجازت دے دی (باقی صفحہ 6 بقیہ نمبر 23)

23

چینی کمپنی

بقیہ

ہے۔ سی آر ای ہانگ کانگ میں قائم ہے اور چینی کمپنی سی آر ای انٹرنیشنل کی ماتحت کمپنی ہے۔ پر سکیٹس انٹرنیشنٹ لیٹنڈ) ایس ایس آئی ایل (ایک پاکستانی کمپنی یو ای پی ونڈ پاور کے سو فیصد حیر زکی مالک ہے۔ یو ای پی ونڈ پاور ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو پاکستان میں 99 ایم ڈبلیو ہوا سے چلنے والی بجلی کی پیداوار کا سسٹم چلا رہی ہے۔

چینی کمپنی کا پاکستان میں مُتبادلہ توانائی کمپنی کا حصول

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) چینی کمپنی سی این این پی انرجی لمیٹڈ نے اپنی ماتحت کمپنی سی آرای انٹرنیشنل کے ذریعے پاکستان کے ریٹروسیبل (باقی صفحہ 6 بجیہ نمبر 12)



انرجی (متبادل توانائی) سیکٹر میں ہماری سرمایہ کاری کر دی ہے۔ کمپنیشن مین آف پاکستان (سی سی پی) نے چینی کمپنی سی آرای انٹرنیشنل کو موریشس کی سہ سلسلس انوسٹمنٹ لمیٹڈ (ایس ایس آئی ایل) کے حصول کی اجازت دے دی ہے۔ سی آرای ہانگ کانگ میں قائم ہے اور چینی کمپنی سی این این پی انرجی کی ماتحت کمپنی ہے۔ سہ سلسلس انوسٹمنٹ لمیٹڈ (ایس ایس آئی ایل) ایک پاکستانی کمپنی ہے ای پی ونڈ پاور کے سولیفڈ مشینری کی مالک ہے۔ ای پی ونڈ پاور ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو پاکستان میں 99 ایم ڈبلیو ہا سے چلنے والی بجلی کی پیداوار کا سسٹم چلا رہی ہے۔ سی آرای نے ایس ایس آئی ایل کا حصول کر لیا ہے، اس طرح سے اس نے بالواسطہ طور پر ای پی ونڈ پاور پلانٹ کا حصول بھی کر لیا ہے۔ سی سی پی نے مارجر دستاویزات کا مُنصلل جائزہ لیا اور صحیح مارکیٹ میں حصول کرنے والی پارٹی کی بلا دست پوزیشن نہ ہو جانے کا یقین ہو جانے کے بعد اس مرجر کی منظوری دی۔ یہ ٹرانزیکشن پاکستان کے ریٹروسیبل انرجی سیکٹر میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ ٹرانزیکشن بالواسطہ طور پر مُلک کی توانائی جیسے اہم سیکٹر میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ریٹروسیبل انرجی سیکٹر میں باہمی تعاون کے ساتھ پیشرفت کے امکان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔



پہنی کمپنی کی متبادل توانائی سیکڑ میں بھاری سرمایہ کاری

پی این این، توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اچھی خبر، پہنی کمپنی نے متبادل توانائی سیکڑ میں بھاری سرمایہ کاری کر دی۔

تفصیلات کے مطابق سی این این پی انرجی لمیٹڈ نے اپنی ماتحت کمپنی سی آری انٹرنیشنل کے ذریعے سرمایہ کاری کی، مسابقتی کمیٹی نے کمپنی کو موریشس کی سپر سکیس الوسٹریٹ لمیٹڈ کے حصول کی اجازت دے دی، سی آری ہانگ کانگ میں قائم، پہنی کمپنی سی این این پی انرجی کی ماتحت کمپنی ہے، سپر سکیس الوسٹریٹ لمیٹڈ ایک پاکستانی کمپنی یو ای پی ونڈ پاور کے سوشیو شئیرز کی مالک ہے۔

مسابقتی کمیٹی کے مطابق سی آری نے ایس ایس آئی ایل کا حصول کر لیا ہے، کمپنی نے بالواسطہ طور پر یو ای پی ونڈ پاور پلائٹ کا حصول بھی کر لیا ہے، سی سی پی نے مرز دستاویزات کا مٹھل جائزہ لیا۔